

**FEDERAL PUBLIC SERVICE COMMISSION COMPETITIVE
 EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO POSTS IN B.P.S.-17
 UNDER THE FEDERAL GOVERNMENT, 2013**

ISLAMIAT

TIME ALLOWED: THREE HOURS

MAXIMUM MARKS: 100

NOTE: Attempt SIX questions in all including Question No. 1 which is **COMPULSORY** and carries 10 marks. Rest of the Questions carry 18 marks each. Answer in English or Urdu.

1. Translate the following Surah:

-1 مندرجہ ذیل سورت کا ترجمہ کیجئے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
 قُلْ اِنْعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۝ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثِ
 فِی الْعُقَدِ ۝ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

2. When and how the revelation (Wahce) was started? Write in detail. Which were the first & the last Ayat. Explain also the reality of WAHEE.

-2 نزول وحی کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ تفصیلاً لکھیے۔ نیز وحی کی پہلی اور آخری آیات کو بھی نام لیں؟ وحی کی حقیقت بھی بیان کیجئے۔

3. Define the religion of Islam. Explain also the idea and place of humanity in Islam.

-3 دین اسلام کی تعریف کیجئے۔ نیز دین اسلام کا تصور و مقام انسانیت کا تفصیلاً بیان کیجئے۔

4. Explain with arguments the Self-Reformation (Islah-i-Nafs) and construction of moral according to the need and importance of the faith of the Day of Judgement. (AKHIRAT).

-4 اصلاح نفس اور تعمیر اخلاق کے لیے عقیدہ آخرت کی اہمیت و ضرورت دلائل کے ساتھ بیان کیجئے۔

5. Write down a comprehensive essay on the basic sources of law in Islam.

-5 اسلام کے بنیادی قانونی سرچشموں پر ایک جامع مضمون لکھ کر لکھیں۔

6. What is the meanings of the freedom of woman in Islam? What are the responsibilities of man and woman in the building of character of new generation? Explain in detail.

-6 اسلام میں عورت کی آزادی کا کیا مفہوم ہے؟ نئی نسل کی تعمیر سیرت میں مرد اور عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تفصیلاً تحریر کیجئے۔

7. Write down a detailed essay on the importance, necessity and different kinds of 'JEHAD' in Islam.

-7 اسلام میں جہاد کی اہمیت، ضرورت اور مختلف اقسام پر ایک تفصیلی مضمون تحریر کیجئے۔

8. Explain with arguments the system of Law and Justice of Islam.

-8 اسلام کے نظام قانون و عدل کی وضاحت دلائل کے ساتھ بیان کیجئے۔

9. Write down in detail the problems of "UMMAH" in the contemporary world.

-9 امت مسلمہ کو موجودہ دور میں جن مسائل کا سامنا ہے ان پر تفصیلی تبصرہ کیجئے۔